



## مقبوضہ کشمیر میں شہریوں کے قتل کیخلاف حریت قیادت کی کال پر مکمل ہڑتال

سرینگر (وائس آف ایشیا) مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی طرف سے بیگناہ شہریوں کے بڑھتے ہوئے قتل عام کے خلاف بدھ کو مکمل ہڑتال کی گئی۔ کشمیر میڈیاسروس کے مطابق ہڑتال کی کال سید علی گیلانی،، میر واعظ عمر فاروق اور محمد یاسین ملک پر مشتمل حریت قیادت نے دی ہے۔ سرینگر سمیت تمام بڑے قصبوں میں دکانیں اور کاروباری مراکز بند ہیں جبکہ سڑکوں پر ٹریفک معطل رہی۔ قابض انتظامیہ نے بھارت مخالف مظاہروں کو روکنے کیلئے بڑی تعداد بھارتی فورسز اہلکار تعینات کر دیے ہیں۔ دریں اثنا مشترکہ قیادت نے 13 جولائی 1931ء کے شہداء کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے تیرہ جولائی بروز جمعہ مزار شہداء نقشبند صاحب کی طرف مارچ کی کال دی ہے۔ مشترکہ قیادت قیادت نے سرینگر میں جاری ایک بیان میں شوپیاں، بارہمولہ اور دیگر

علاقوں میں شہید ہونے والے شہریوں کو شاندار خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے کہا کہ قابض فورسز جس بے رحمانہ طریقے سے کشمیری پھولوں کو مسل ہیں، آج کل کی مہذب دنیا میں اس درندگی کی مثال ملنا مشکل ہے۔

13 جولائی 1931 کو ڈوگرہ مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج نے سرینگر سینٹرل جیل کے باہر یکے بعد دیگرے 22 کشمیریوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا۔ اس روز ہزاروں کشمیری عبدالقدیر نامی ایک شخص کے خلاف مقدمے کی سماعت کے موقع پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جیل کے باہر جمع ہوئے تھے۔ عبدالقدیر نے کشمیریوں کو ڈوگرہ راج کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کیلئے کہا تھا جس کی پاداش میں ان کے خلاف مقدمہ چلا یا گیا۔